

5476  
40718

استفتاء

محترم جناب مفتی صاحب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مفتی صاحب ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ سلام تکافل لمیٹڈ کمپنی۔ جس کا پہلے نام تکافل پاکستان لمیٹڈ تھا۔ کمپنی کی طرف سے مہیا کی گئی معلومات کے مطابق ابتداء میں اس کی وقف ڈیڈ اور وقف رولز وغیرہ مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب اور مفتی محب الحق صاحب نے بنائی تھی۔ اب اس کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب اور شریعہ ایڈوائزر مفتی سجاد اشرف عثمانی صاحب ہیں۔ یہ کمپنی انشورنس کے اسلامی متبادل تکافل کے طور پر وکالہ وقف ماڈل کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ وکالہ وقف ماڈل پر انشورنس کے اسلامی متبادل کے طور پر کوئی تکافل کمپنی اپنی سرگرمیاں انجام دے، تو شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں۔ جبکہ اس کا شریعہ ڈیپارٹمنٹ اس کی سرگرمیوں کے شریعہ کمپلائنٹ ہونے کی یقین دہانی بھی کراتا ہوں؟

بینواتوجروا



جزاکم اللہ خیر ادا حسن الجزاء

محمد شعیب کراچی

0307-1323871

(جواب منسکہ ورقہ بر ملد خطہ و نائیں)

